

Attempt questions

- 1 False ceiling is done to: 1
 a. Lower the height of ceiling. - مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔
 b. Keep the ceiling clean. - چھت کی اونچائی کم کرنا
 c. Cool the room - چھت کو صاف کرنا
 d. Insulate the ceiling. - کمرے کو ٹھنڈا کرنا
 - چھت کو انسولیٹ کرنا
- 2 Worst absorber of heat: 2
 a. Dull black surface b. Coloured surfaces - حرارت کی انتہائی خراب جذب کنندہ ہوتی ہے۔
 c. White surfaces d. Shining silvered surface - اے روئی سیاہ سطح
 - بے رنگین سطح
 - سفید سطح
 - چمکدار نقرئی سطح
- 3 The unit of rate of conduction of thermal energy is: 3
 a. JS^{-1} b. J a. JS^{-1} b. J
 c. K d. JK^{-1} c. K d. JK^{-1}
 تھرمل انرجی کی کنڈکشن کی شرح کا یونٹ ہے۔
- 4 is good radiator of heat: 4
 a. A shining silvered surface - مندرجہ ذیل میں سے کونسی شے حرارت کی اچھی ریڈی ایٹر ہے؟
 b. A dull black surface - ایک سلور کی چمکتی سطح
 c. A white surface - ایک مدہم کالی سطح
 d. A green coloured surface - ایک سفید سطح
 - ایک سبز رنگی سطح
- 5 Heat transfers through fluids by the method called: 5
 a. Radiation b. Conduction - حرارت سیال اشیاء سے جس طریقہ سے منتقل ہوتی ہے۔
 c. Convection d. Absorption - ریڈی ایشن
 - کنو ایکشن
 - کنڈکشن
 - ابزورپشن
- 6 Thermal conductivity of rubber is: 6
 a. $0.08Wm^{-1}K^{-1}$ b. $1.7Wm^{-1}K^{-1}$ - ربڑ کی تھرمل کنڈکٹیویٹی ہے۔
 c. $0.2Wm^{-1}K^{-1}$ d. $0.59Wm^{-1}K^{-1}$ a. $0.08Wm^{-1}K^{-1}$ b. $1.7Wm^{-1}K^{-1}$
 c. $0.2Wm^{-1}K^{-1}$ d. $0.59Wm^{-1}K^{-1}$
- 7 Reason of glider to remain in air is: 7
 a. power b. Conduction - گلائڈر کے ہوا میں رہنے کی وجہ ہے:
 c. Radiation d. Convection - پاور
 - ریڈی ایشن
 - کنو ایکشن
 - کنڈکشن
- 8 Metals are good conductor of heat due to: 8
 a. Free Electrons b. Big size of molecules - میٹلز کے اچھے کنڈکٹر ہونے کی وجہ ہے۔
 c. Small size of molecules - آزاد الیکٹرون
 d. Rapid vibration of atoms - مالیکولز کا بڑا سائز
 - مالیکولز کا چھوٹا سائز
 - ان کے ایٹمز کے تیز و باہر لیشن